



Kasvosuoja (1) 81457, 84457
<span></span>

**Käyttötarkoitus:** Auttaa suojaamaan kasvoja loukkaantumiselta.

**Käyttöohje:** (81457, 84457)

- Laita pehmusteet kasvosuojaan haluamaasi kohtiin.
- Aseta kasvosuoja varovasti kasvoille niin, että pehmusteet tuntuvat mukavilta.
- Vedä elastinen hihna varovasti pään yli kiinnittääkseen kasvosuojan paikalleen.
- Säädä nauhoja tarpeen mukaan.

**Hoito-ohjeet:** Pyyhi pehmeällä, kostealla kankaalla.

Ei valmistettu luonnonkumista.

Huomio: Jos käytön yhteydessä ilmenee jokin vakava terveydentilaan liittyvä ongelma, ilmoita siitä pakkauksessa nimetylle valmistajalle ja maasi toimivaltaiselle terveysviranomaiselle.

Štitnik za lice (1) 81457, 84457
<span></span>

**Namena:** Štiti lice od povreda.

**Način primene:** (81457, 84457)

- Stavite jastučice na željene delove štitnika za lice radi udobnog prijanjanja.
- Pažljivo stavite štitnik na lice tako da jastučići udobno prijanjaju.
- Pažljivo rastegnite elastične trake preko glave kako se štitnik za lice ne bi pomerio.
- Podesite trake po potrebi.

**Održavanje:** Obrisite mekom vlažnom krpom.

Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.

Obaveštenje: Ako se zbog upotrebe ovog proizvoda dogodilo bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na etiketi i nadležna zdravstvena organa u vašoj zemlji.

واقى الوجه (1) 81457, 84457
<span></span>

الاستخدام المقصود: المساعدة في حماية الوجه من الإصابة.

كيفية الاستخدام: (81457, 81457)

١: ضع البطانة على الأجزاء المطلوبة في واقى الوجه بحيث يكون ملائماً لوضعه على الوجه.

٢: ضع الواقى على الوجه برفق بحيث تكون البطانة في موضع مريح.

٣: قم بشد الرباط المرن فوق الرأس لتثبيت واقى الوجه في موضعه.

٤: اضبط الأشرطة حسب الحاجة.

التعليق: امسح بقطعة قماش مبللة وناعمة.

المنتج غير مصنوع من مطاط اللاتكس الطبيعي.

ملاحظة: في حال وقوع أي حالة صحية خطيرة مرتبطة باستخدام هذه الأداة، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة الموضحة على الملصق والجهات الصحية المختصة في بلدك.

Pelindung Muka (1) 81457, 84457
<span></span>

**Tujuan Kegunaan:** Membantu melindungi muka daripada kecederaan.

**Cara Memakai:** (81457, 84457)

- Letak pad pada bahagian-bahagian yang diingini agar muat dengan sesuai.
- Perlahan-lahan letak pelindung muka pada muka agar kedudukan pad rasa selesa.
- Perlahan-lahan tarik pemail elastik keliling kepala untuk ketatkan kedudukan pelindung muka.
- Laras pengebat mengikut perlu.

**Penjagaan:** Lap dengan kain lembap yang lembut.

Tidak dibuat daripada lateks getah asli.

Perhatian: Sekiranya berlaku sebarang kejadian serius berkaitan dengan penggunaan alat ini, sila maklumkan pengeluar yang tertera pada label dan pihak kesihatan yang kompeten di negara anda.

Дụng Cụ Bảo Vệ Mặt (1) 81457, 84457
<span></span>

**Mục Đích Sử Dụng:** Giúp bảo vệ mặt khỏi bị tổn thương.

**Cách sử dụng:** (81457, 84457)

- Giữ phần đệm vào các vùng muốn sử dụng trên dụng cụ bảo vệ mặt sao cho vừa với người sử dụng.
- Nhẹ nhàng đặt dụng cụ bảo vệ mặt lên mặt sao cho phần đệm nằm ở vị trí thoải mái.
- Kéo nhẹ phần lưới co giãn qua đầu để giữ cố định dụng cụ bảo vệ mặt.
- Điều chỉnh dây buộc khi cần.

**Bảo dưỡng:** Lau bằng khăn mềm ẩm.

Không được làm bằng chất liệu cao su tự nhiên.

Lưu ý: Nếu xảy ra bất kỳ biến cố sức khỏe nghiêm trọng nào có liên quan khi sử dụng thiết bị, hãy thông báo cho nhà sản xuất được ghi trên nhãn sản phẩm và các cơ quan chức năng về y tế của quốc gia quý vị.

Защитна маска за лице (1) 81457, 84457
<span></span>

**Предназначение:** Помага за защитата на лицето от нараняване.

**Инструкции за употреба:** (81457, 84457)

- Приложете подложката върху меланите зони на защитната маска за лице, така че да Ви е удобно.
- Внимателно поставете защитната маска за лице, така че подложката да е в удобна позиция.
- Внимателно опънете еластичния колан над главата си, за да поставите защитната маска за лице на място.
- Регулирайте лентите според нуждата.

**Почистване:** Почистете с мека и влажна кърпа.

Изделието не е направено от естествен каучуков латекс.

Забелжка: Ако вследствие на използването на продукта възникне сериозен инцидент, свързан със здравето, моля, уведомете производителя, посочен на етикета, и компетентните здравни органи на вашата страна.

Näokaitse (1) 81457, 84457
<span></span>

**Kasutusotstarve:** Aitab kaitsta nägu vigastuste eest.

**Kasutamise:** (81457, 84457)

- Pange näole soovitud kohtadesse polster, et näokaitse näoga sobitada.
- Pange näokaitse ettevaatlikult näole, nii et polster oleks mugavalt.
- Tõmmake elastikpael ettevaatlikult üle pea, et näokaitse paigal püsiks.
- Vajaduse korral reguleerige paela.

**Hooldamine:** pühkige pehme niiske lapiga.

Ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist.

Märkus! Kui seadme kasutamisel esineb tõsiselid tervisega seotud juhtumeid, teavitage sellest sildil märgitud tootjat ja oma riigi pädevaid tervishoiuasutusi.

Arcvédő (1) 81457, 84457
<span></span>

**Rendeltetés:** Segít védeni az arcot a sérüléstől.

**Alkalmazás módja:** (81457, 84457)

- Helyezzen párnázatot az arcvédő kívánt részeire a testre szabott illeszkedés biztosításához.
- Finoman helyezze az arcvédőt az arcra, hogy a párnázat kényelmes helyzetbe kerüljön.
- Finoman megfeszítve húzza a rugalmas hevedert a fejre, hogy a helyén tartsa az arcvédőt.
- Szükség szerint igazítsa be a pántokat.

**Ápolás:** Puha, nedves törölkendővel törölje át.

Természetes nyersgumi latex felhasználása nélkül készült.

Észrevétel: Ha az eszköz használata során bármiféle súlyos egészségügyi vonatkozású váratlan esemény következne be, értesítse a címkén megjelölt gyártót és országá illetékes egészségügyi hatóságát.

Andlitshlíf (1) 81457, 84457
<span></span>

**Tilætúli not:** Hjálpar til við að verja andlitð gegn meiðslum.

**Notkunarleiðbeiningar:** (81457, 84457)

- Setjið púða á tilætlaða staði andlitshlífarinnar svo passi rétt.
- Komið andlitshlífinni fyrir á andlitinu þannig að púðar séu þægilega staðsettir.
- Strengið teygjuböndin varlega yfir höfuðið til að halda andlitshlífinni á sínum stað.
- Aðlagið stöppur eins og þörf er.

**Umhirða:** Þurrkið með mjúkkum, rökum klúti.

Ekki gert úr náttúrulegu gúmmilatexi.

Tilkygning: Ef einhver alvarleg heilsutengd tilvik koma upp við notkun þessa búnaðar skal vinsamlega láta fraeildandann sem fram kemur á merkingum og viðeigndi heilsuvörnd í landinu víta..

Veido apsauga (1) 81457, 84457
<span></span>

**Numatoyji paskirtis:** Padeda apsaugoti veidą nuo sužalojimų.

**Kaip naudoti:** (81457, 84457)

- Ant pageidaujamų veido vietų uždėkite naudotojui pritaikytą paminkštintą apsaugą.
- Švelniai uždėkite veido apsaugą ant veido taip, kad paminkštinta apsauga būtų patogioje pozicijoje.
- Švelniai ištempkite dirželius aplink galvą, kad prilaikytų veido apsaugą reikiamoje vietoje.
- Nureguliuokite diržulojiet saites.

**Priežiūra:** nušluostykite drėgna šluoste.

Pagaminta nenaudojant natūralaus gumos lateksa.

Paziņojums: ja saistībā ar šīs ierīces izmantošanu notiek kāds nopietns, ar veselību saistīts negadījums, lūdzu informējiet etiketē norādīto ražotāju un savas valsts kompetentās veselības aprūpes iestādes.

ที่กันหน้า (1) 81457, 84457
<span></span>

ช่องใส่: ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่ใบหน้า

วิธีการใช้: (81457, 84457)

- ติดแผ่นรองบนที่กัหน้าบริเวณที่ต้องการ
- ค่อย ๆ สวมที่กันหน้าบนใบหน้า โดยให้แผ่นรองอยู่ในตำแหน่งที่สบาย
- ค่อย ๆ ยึดแถบยางยึดออกเหนือศีรษะ เพื่อให้ที่กันหน้าอยู่กับที่
- ปรับสายรัดตามความต้องการ

การดูแลรักษา: เช็ดความชุ่มชื้นบนใบหน้าเบา ๆ

ไม่ได้ทำจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

คำเตือน: หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับสุขภาพขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดแจ้งให้ผู้ผลิตทราบตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุอยู่บนฉลากนี้ และแจ้งกหนวยงานด้านสาธารณสุขในประเทของคุณ

MAGYAR
<span></span>

ÍSLENSKI
<span></span>

LIETUV
<span></span>

NORSKI
<span></span>

ROMÂN
<span></span>

SLOVENČ
<span></span>

SLOVENŠČ
<span></span>

TÜRKÇ
<span></span>